

مقدس جگہ حصہ ہفتم

کاپی رائٹ ہیلن شرمپٹن 2019 تمام جملہ حقوق محفوظ

www.crystalsandcrochet.com



تمام نمونہ امریکی انگریزی میں لکھا گیا

مخفف

St, sts	ٹانکا،	Sc	سادہ ٹانکا	Bl	اوپری زنجیر کے پچھلے حصے میں
R	چکر	Hdc	آدھا بڑا ٹانکا	Fl	اوپری زنجیر کے اگلے حصے میں
Ch	ٹانکا زنجیر	Dc	بڑا ٹانکا	Bp	ٹانکے کے گرد پچھلی طرف سے
Sl-st	گم ٹانکا	Tr	دو بل ٹانکا	Fp	ٹانکے کے گرد اگلی طرف سے
		Dtr	تین بل ٹانکا		

اشارے آپ کی سہولت کے لئے دئے گئے ہیں جو امید ہے کہ نئے بنانے والو کے لئے آسانی کا باعث ہو گے۔

(p) تصاویر کو اعداد سے ظاہر کیا گیا ہے

دو ستاروں کے درمیان دی گئی ہدایات کو بتائی گئی تعداد میں دہرائیں * *

یہ عام طور پر مکمل طرف کی دہرائی ہوتی ہے جس میں کئی طرح کی ہدایات شامل ہوتی ہیں

بریکٹ کے اندر دی گئی ہدایات کو بتائی گئی تعداد میں دہرائیں ()

یہ عام طور پر نچلے درجے کی دہرائی ہوتی ہے

اس نمونے میں کئی خصوصی ٹانکے استعمال کئے گئے ہیں۔ معلومات کے لئے میرے یو ٹیوب چینل پہ معلومات حاصل کر سکتے

[YouTube Channel Special Stitches](#)

خصوصی ٹانکے -

تین بڑے ٹانکوں کا جھنڈ - 3dc cluster

بل ڈال کر ہک کو بتائے گئے ٹانکے یا جگہ میں سے ہک گزار کہ پھندہ کھینچ لیں - ہک پہ تین پھندے ہیں بل ڈال کر دو پھندوں سے اون کھینچ لیں - ہک پہ دو پھندے ہیں - دو بار اس ہی ٹانکے یا جگہ میں اور دہرائیں - ہک پہ چار پھندے ہیں - بل ڈال کر چاروں پھندوں سے اون کھینچ لیں -

تین - تین بل ٹانکوں کا جھنڈ - 3tr cluster

دو بار بل ڈالیں - ہک کو ٹانکے میں سے گزار کہ پھندہ کھینچ لیں - ہک پہ چار پھندے ہیں بل ڈال کر دو پھندوں سے اون کھینچ لیں - اس عمل کو دو بار اور دہرائیں ہک پہ دو پھندے ہیں - دو بار اور دہرائیں ہک پہ چار پھندے ہیں بل ڈال کر چاروں پھندوں سے اون کھینچ لیں -

پھولی مکئی ٹانکا - Popcorn

ایک ہی ٹانکے میں پانچ بڑے ٹانکے بنائیں - ہک پھندے سے نکال کر پہلے بڑے ٹانکے سے بیچھے سے آگے کی طرف ہک گزار کہ پھندہ کھینچ لیں - ایک زنجیر ٹانکا بنا کر ٹانکا مکمل کر لیں - ٹانکے کو مکمل کرنے والا ایک زنجیر ٹانکا آئندہ بنائے جانے والے زنجیر ٹانکوں کی گنتی میں شامل نہیں کیا جاتا -

شروعاتی پھولی مکئی ٹانکا بنانے کے لئے کھڑا بڑا ٹانکا یا تین زنجیر ٹانکے بنائیں - یہ پہلا ٹانکا شمار ہوگا -

تین بڑے ٹانکوں کا اکٹھ - Dc3tog

بل ڈال کر ہک کو بتائے گئے ٹانکے سے گزار کہ بل ڈال کر پھندہ کھینچ لیں - ہک پہ تین پھندے ہیں بل ڈال کر دو پھندوں سے اون کھینچ لیں ہک پہ دو پھندے ہیں - اگلے دو ٹانکوں میں اس ہی عمل کو دہرائیں - ہک پہ چار پھندے ہیں بل ڈال کر چاروں پھندوں سے اون کھینچ لیں -

اشارہ - اگلے آنے والے دو چکروں میں کام پیالی نما ہو جائے گا -

اکیاونواں چکر

پچھلے چکر کے کھڑے سادہ ٹانکے سے پہلے چکر نمبر اسی کے چوتھے ٹانکے میں کھڑا سادہ ٹانکا بنائیں۔ اگلے بارہ ٹانکوں میں ایک ایک سادہ ٹانکا۔

(اگلے تین ٹانکے خالی چھوڑ دیں اگلے ٹانکے میں بنائیں (تین۔ تین بل ٹانکوں کا جھنڈ۔ چار زنجیر ٹانکے۔ تین۔ تین بل ٹانکوں کا جھنڈ۔) اگلے تین ٹانکے خالی چھوڑ دیں اگلے تین ٹانکوں میں ایک ایک سادہ ٹانکا بنائیں۔) چار بار دہرائیں۔

اگلے تین ٹانکے خالی چھوڑ دیں اگلے ٹانکے میں بنائیں۔ (تین۔ تین بل ٹانکوں کا جھنڈ۔ چار زنجیر ٹانکے۔ تین۔ تین بل ٹانکوں کا جھنڈ۔) اگلے تین ٹانکے خالی چھوڑ دیں اگلے ٹانکے میں سادہ ٹانکا بنائیں۔

اگلے دو ٹانکے خالی چھوڑ دیں اگلے ٹانکے میں بنائیں۔ (تین۔ تین بل ٹانکوں کا جھنڈ۔ چار زنجیر ٹانکے۔ تین۔ تین بل ٹانکوں کا جھنڈ۔) اگلے دو ٹانکے خالی چھوڑ دیں اگلے ٹانکے میں سادہ ٹانکا بنائیں۔

اگلے تین ٹانکے خالی چھوڑ دیں اگلے ٹانکے میں بنائیں۔ (تین۔ تین بل ٹانکوں کا جھنڈ۔ چار زنجیر ٹانکے۔ تین۔ تین بل ٹانکوں کا جھنڈ۔) اگلے تین۔ اگلے تین۔ اگلے تین۔ اگلے تین ٹانکے خالی چھوڑ دیں اگلے تین ٹانکوں میں ایک ایک سادہ ٹانکا بنائیں۔) پانچ بار دہرائیں۔ اگلے دس ٹانکوں میں ایک ایک سادہ ٹانکا بنائیں۔

اون کو کاٹ کر سرے کو محفوظ کر لیں۔

ٹانکے شمار کریں۔ فی کونہ۔ باون سادہ ٹانکے۔ بانیس۔ تین۔ تین بل ٹانکوں کے جھنڈ۔ چار زنجیر ٹانکے والی گیارہ جگہ۔



91

crystalsandcrochet.com

1

باونواں چکر -

پچھلے چکر کے کھڑے سادہ ٹانکے سے پہلے چکر نمبر اسی کے چوتھے ٹانکے میں کھڑا سادہ ٹانکا بنائیں۔ اگلے دس ٹانکوں میں ایک ایک سادہ ٹانکا بنائیں۔ اگلے تین ٹانکوں میں ایک ایک آدھا بڑا ٹانکا بنائیں۔

(اگلے تین ٹانکوں میں ایک ایک پھولی مکئی ٹانکا بنائیں۔ چھ زنجیر ٹانکے بنائیں۔ اگلا جھنڈ خالی چھوڑ دیں۔) پانچ بار دہرائیں

اگلے ٹانکے میں پھولی مکئی ٹانکا بنائیں۔ چھ زنجیر ٹانکے بنائیں۔ اگلا جھنڈ خالی چھوڑ دیں۔ اگلے ٹانکے میں پھولی مکئی ٹانکا بنائیں۔

(چھ زنجیر ٹانکے بنائیں۔ اگلا جھنڈ خالی چھوڑ دیں۔ اگلے تین ٹانکوں میں ایک ایک پھولی مکئی ٹانکا بنائیں۔) پانچ بار دہرائیں

اگلے تین ٹانکوں میں ایک ایک آدھا بڑا ٹانکا بنائیں۔ اگلے گیارہ ٹانکوں میں ایک ایک سادہ ٹانکا بنائیں۔

اون کو کاٹ کر سرے کو محفوظ کر لیں۔

ٹانکے شمار کریں۔ فی کونہ۔ بانیس سادہ ٹانکے۔ چھ آدھے بڑے ٹانکے۔ بتیس پھولی مکئی ٹانکے۔ چھ زنجیر ٹانکے والی گیارہ جگہ۔



تیرا ونواں چکر -

پچھلے چکر کے کھڑے سادہ ٹانکے سے پہلے چکر نمبر اسی کے چوتھے ٹانکے میں کھڑا سادہ ٹانکا بنائیں۔ اگلے سترہ ٹانکوں میں ایک ایک سادہ ٹانکا بنائیں۔

(اگلے تین ٹانکوں کے گرد اگلی طرف سے ایک ایک سادہ ٹانکا بنائیں۔ چھ زنجیر جگہ کے اوپر سے ہوتے ہوئے چکر نمبر اکانوے کے زنجیر جگہ میں نو بڑے ٹانکے بنائیں۔) تصویر نمبر ایک دیکھئے۔ چار بار دہرائیں۔


اگلے تین ٹانکوں کے گرد اگلی طرف سے ایک ایک سادہ ٹانکا بنائیں۔ (چھ زنجیر جگہ کے اوپر سے ہوتے ہوئے چکر نمبر اکانوے کی چار زنجیر جگہ میں نو۔ تین بل ٹانکے بنائیں۔ اگلے ٹانکے کے گرد اگلی طرف سے سادہ ٹانکا بنائیں۔) دو بار دہرائیں۔ چھ زنجیر جگہ کے اوپر سے ہوتے ہوئے چکر نمبر اکانوے کی چار زنجیر جگہ میں نو۔ تین بل ٹانکے بنائیں۔

اگلے تین ٹانکوں کے گرد اگلی طرف سے ایک ایک سادہ ٹانکا بنائیں۔ (چھ زنجیر جگہ کے اوپر سے ہوتے ہوئے چکر نمبر اکانوے کی چار زنجیر جگہ میں نو۔ تین بل ٹانکے بنائیں۔) چار بار دہرائیں۔

اگلے تین ٹانکوں کے گرد اگلی طرف سے ایک ایک سادہ ٹانکا بنائیں۔ اگلے اٹھارہ ٹانکوں میں ایک ایک سادہ ٹانکا بنائیں۔۔ تصویر نمبر دو دیکھئے

اون کو کاٹ کر سرے کو محفوظ کر لیں۔

ٹانکے شمار کریں۔ فی کونہ۔ چھتیس سادہ ٹانکے۔ بتیس ٹانکے کے گرد اگلی طرف سے بنے سادہ ٹانکے۔ آٹھ سیپیاں نو بڑے ٹانکوں والی۔ تین سیپیاں نو۔ تین بل ٹانکوں والی۔



چوراو نوں چکر -

پچھلے چکر کے کھڑے سادہ ٹانکے سے پہلے چکر نمبر اسی کے چوتھے ٹانکے میں کھڑا سادہ ٹانکا بنائیں۔ اگلے تیس ٹانکوں میں ایک ایک سادہ ٹانکا بنائیں۔ اگلا ٹانکا خالی چھوڑ دیں۔

(اگلے ٹانکے کے گرد پچھلی طرف سے بڑا ٹانکا بنائیں۔ اگلے دو ٹانکوں کے گرد پچھلی طرف سے آدھے بڑے ٹانکے بنائیں۔

اگلے تین ٹانکوں کے گرد پچھلی طرف سے ایک ایک سادہ ٹانکا بنائیں۔ اگلے دو ٹانکوں کے گرد پچھلی طرف سے آدھے بڑے ٹانکے بنائیں۔ اگلے ٹانکے کے گرد پچھلی طرف سے بڑا ٹانکا بنائیں۔ اگلے تین ٹانکوں میں تین بڑے ٹانکوں کا اکٹھ بنائیں۔) تصویر نمبر ایک دیکھئے۔ چار بار دہرائیں۔

اگلے ٹانکے کے گرد پچھلی طرف سے بڑا ٹانکا بنائیں۔ اگلے دو ٹانکوں کے گرد پچھلی طرف سے آدھے بڑے ٹانکے بنائیں۔

اگلے تین ٹانکوں کے گرد پچھلی طرف سے ایک ایک سادہ ٹانکا بنائیں۔ اگلے دو ٹانکوں کے گرد پچھلی طرف سے آدھے بڑے ٹانکے بنائیں۔ اگلے ٹانکے کے گرد پچھلی طرف سے بڑا ٹانکا بنائیں۔ اگلے ٹانکے میں بڑا ٹانکا بنائیں۔ اگلے نو ٹانکوں کے گرد پچھلی طرف سے بڑے ٹانکے بنائیں۔ اگلے ٹانکے میں بڑا ٹانکا بنائیں۔


(اگلے ٹانکے کے گرد پچھلی طرف سے بڑا ٹانکا بنائیں۔ اگلے دو ٹانکوں کے گرد پچھلی طرف سے آدھے بڑے ٹانکے بنائیں۔

اگلے تین ٹانکوں کے گرد پچھلی طرف سے ایک ایک سادہ ٹانکا بنائیں۔ اگلے دو ٹانکوں کے گرد پچھلی طرف سے آدھے بڑے ٹانکے بنائیں۔ اگلے ٹانکے کے گرد پچھلی طرف سے بڑا ٹانکا بنائیں۔ اگلے تین ٹانکوں میں تین بڑے ٹانکوں کا اکٹھ بنائیں۔) چار بار دہرائیں۔

اگلے ٹانکے کے گرد پچھلی طرف سے بڑا ٹانکا بنائیں۔ اگلے دو ٹانکوں کے گرد پچھلی طرف سے آدھے بڑے ٹانکے بنائیں۔ اگلے تین ٹانکوں کے گرد پچھلی طرف سے ایک ایک سادہ ٹانکا بنائیں۔ اگلے دو ٹانکوں کے گرد پچھلی طرف سے آدھے بڑے ٹانکے بنائیں۔ اگلے ٹانکے کے گرد پچھلی طرف سے بڑا ٹانکا بنائیں۔ اگلا ٹانکا خالی چھوڑ دیں اگلے چوبیس ٹانکوں میں ایک ایک سادہ ٹانکا بنائیں۔ تصویر نمبر دو دیکھئے۔

اون کو کاٹ کر سرے کو محفوظ کر لیں۔

ٹانکے شمار کریں۔ فی کونہ۔ اڑتالیس سادہ ٹانکے۔ ٹانکے کے گرد پچھلی طرف سے بنے تیس سادہ ٹانکے۔ ٹانکے کے گرد پچھلی طرف سے بنے چالیس آدھے بڑے ٹانکے۔ دو بڑے ٹانکے۔ ٹانکے کے گرد پچھلی طرف سے بنے اونتیس بڑے ٹانکے۔ آٹھ۔ تین بڑے ٹانکوں کا اکٹھ۔



پچاونواں چکر -

پچھلے چکر کے کھڑے سادہ ٹانکے سے پہلے چکر نمبر اسی کے چوتھے ٹانکے میں کھڑا سادہ ٹانکا بنائیں۔ اگلے اونیس ٹانکوں میں ایک ایک سادہ ٹانکا بنائیں۔

اگلے چار ٹانکوں میں ایک ایک آدھا بڑا ٹانکا بنائیں۔ اگلے پانچ ٹانکوں میں ایک ایک بڑا ٹانکا بنائیں (اگلے دو ٹانکوں میں ایک ایک آدھا بڑا ٹانکا بنائیں۔ اگلے تین ٹانکوں میں ایک ایک سادہ ٹانکا بنائیں۔ اگلے دو ٹانکوں میں ایک ایک آدھا بڑا ٹانکا بنائیں۔ اگلے تین ٹانکوں میں ایک ایک بڑا ٹانکا بنائیں۔) چار بار دہرائیں۔

اگلے دو ٹانکوں میں ایک ایک آدھا بڑا ٹانکا بنائیں۔ اگلے تین ٹانکوں میں ایک ایک سادہ ٹانکا بنائیں۔ اگلے دو ٹانکوں میں ایک ایک آدھا بڑا ٹانکا بنائیں۔

اگلے ٹانکے میں بڑا ٹانکا بنائیں۔ اگلے ٹانکے میں دو بڑے ٹانکے بنائیں۔ اگلے دو ٹانکوں میں ایک ایک بڑا ٹانکا بنائیں۔ اگلے ٹانکے میں تین بل ٹانکا بنائیں۔ اگلے ٹانکے میں تین۔ اگلے ٹانکے میں تین۔ اگلے ٹانکے میں تین بل ٹانکا بنائیں۔

اگلے ٹانکے میں دو بڑے ٹانکے بنائیں۔ اگلے دو ٹانکوں میں ایک ایک بڑا ٹانکا بنائیں۔ اگلے ٹانکے میں دو بڑے ٹانکے بنائیں اگلے ٹانکے میں بڑا ٹانکا بنائیں۔

(اگلے دو ٹانکوں میں ایک ایک آدھا بڑا ٹانکا بنائیں۔ اگلے تین ٹانکوں میں ایک ایک سادہ ٹانکا بنائیں۔ اگلے دو ٹانکوں میں ایک ایک آدھا بڑا ٹانکا بنائیں۔ اگلے تین ٹانکوں میں ایک ایک بڑا ٹانکا بنائیں۔) پانچ بار دہرائیں۔

اگلے دو ٹانکوں میں ایک ایک بڑا ٹانکا بنائیں۔ اگلے چار ٹانکوں میں ایک ایک آدھا بڑا ٹانکا بنائیں۔ اگلے بیس ٹانکوں میں ایک ایک سادہ ٹانکا بنائیں۔ تصویر نمبر ایک اور دو دیکھئے۔

اون کو کاٹ کر سرے کو محفوظ کر لیں۔

ٹانکے شمار کرئیں۔ فی کونہ۔ ستر سادہ ٹانکے۔ اڑتالیس آدھے بڑے ٹانکے۔ تینتالیس بڑے ٹانکے۔ پانچ۔ تین بل ٹانکے۔



چھپانواں چکر -

پچھلے چکر کے کھڑے سادہ ٹانکے سے پہلے چکر نمبر اسی کے چوتھے ٹانکے میں کھڑا سادہ ٹانکا بنائیں۔ اگلے تین ٹانکوں میں ایک ایک سادہ ٹانکا بنائیں۔

(اگلے ٹانکے میں آدھا بڑا ٹانکا بنائیں۔ اگلا ٹانکا خالی چھوڑ دیں۔) چونتیس بار دہرائیں۔ اگلے ٹانکے میں آدھا بڑا ٹانکا بنائیں۔
تصویر نمبر ایک دیکھئے۔

اگلے دو ٹانکے خالی چھوڑ دیں۔ اگلے ٹانکے میں بنائیں۔ ((بڑا ٹانکا۔ ایک زنجیر ٹانکا) چار بار دہرائیں۔ اگلے ٹانکے میں بڑا ٹانکا بنائیں) اگلے دو ٹانکے خالی چھوڑ دیں اگلے ٹانکے میں سادہ ٹانکا بنائیں۔

اگلے تین ٹانکے خالی چھوڑ دیں اگلے ٹانکے میں بنائیں ((تین بل ٹانکا۔ ایک زنجیر ٹانکا) چار بار دہرائیں۔ اگلے ٹانکے میں تین بل ٹانکا بنائیں۔) اگلے تین ٹانکے خالی چھوڑ دیں اگلے ٹانکے میں سادہ ٹانکا بنائیں۔

اگلے دو ٹانکے خالی چھوڑ دیں اگلے ٹانکے میں بنائیں۔ ((تین بل ٹانکا۔ ایک زنجیر ٹانکا) چار بار دہرائیں۔ اگلے ٹانکے میں تین بل ٹانکا بنائیں۔) اگلے دو ٹانکے خالی چھوڑ دیں اگلے ٹانکے میں سادہ ٹانکا بنائیں۔


اگلے تین ٹانکے خالی چھوڑ دیں اگلے ٹانکے میں بنائیں۔ ((تین بل ٹانکا۔ ایک زنجیر ٹانکا۔) چار بار دہرائیں۔ اگلے ٹانکے میں تین بل ٹانکا بنائیں۔) اگلے تین ٹانکے خالی چھوڑ دیں اگلے ٹانکے میں سادہ ٹانکا بنائیں۔

اگلے دو ٹانکے خالی چھوڑ دیں اگلے ٹانکے میں بنائیں۔ ((بڑا ٹانکا۔ ایک زنجیر ٹانکا۔) چار بار دہرائیں۔ اگلے ٹانکے میں بڑا ٹانکا بنائیں۔) اگلے دو ٹانکے خالی چھوڑ دیں

(اگلے ٹانکے میں آدھا بڑا ٹانکا بنائیں۔ ایک زنجیر ٹانکا بنائیں۔ اگلا ٹانکا خالی چھوڑ دیں) چونتیس بار دہرائیں۔ اگلے ٹانکے میں آدھا بڑا ٹانکا بنائیں۔ اگلے چار ٹانکوں میں ایک ایک سادہ ٹانکا بنائیں۔ تصویر نمبر دو دیکھئے۔

اون کو کاٹ کر سرے کو محفوظ کر لیں۔

ٹانکے شمار کریں۔ فی کونہ۔ بارہ سادہ ٹانکے۔ ستر آدھے بڑے ٹانکے۔ ایک زنجیر ٹانکے والی اڑسٹھ جگہ۔ دو سیبیاں پانچ بڑے ٹانکوں اور چار ایک زنجیر ٹانکے والی۔ تین سیبیاں پانچ تین بل ٹانکوں اور چار ایک زنجیر ٹانکے والی۔



ستاونواں چکر -

پچھلے چکر کے کھڑے سادہ ٹانکے سے پہلے چکر نمبر اسی کے چوتھے ٹانکے میں کھڑا سادہ ٹانکا بنائیں۔ اگلے سات ٹانکوں میں ایک ایک سادہ ٹانکا بنائیں۔

(اگلے ٹانکے کے گرد پچھلی طرف سے سادہ ٹانکا بنائیں۔ ایک زنجیر ٹانکے والی جگہ میں ایک سادہ ٹانکا بنائیں۔) چھبیس بار دہرائیں۔

اگلے ٹانکے کے گرد پچھلی طرف سے آدھا بڑا ٹانکا بنائیں۔ اگلی ایک زنجیر جگہ میں آدھا بڑا ٹانکا بنائیں۔) پانچ بار دہرائیں

(اگلے ٹانکے کے گرد پچھلی طرف سے بڑا ٹانکا بنائیں۔ اگلی ایک زنجیر جگہ میں بڑا ٹانکا بنائیں۔) تین بار دہرائیں۔

(اگلا ٹانکا خالی چھوڑ دیں اگلے ٹانکے کے گرد پچھلی طرف سے بڑا ٹانکا بنائیں۔ اگلی ایک زنجیر جگہ میں آدھا بڑا ٹانکا بنائیں

اگلے ٹانکے کے گرد پچھلی طرف سے آدھا بڑا ٹانکا بنائیں۔ اگلی ایک زنجیر جگہ میں سادہ ٹانکا بنائیں۔ اگلے ٹانکے کے گرد پچھلی طرف سے آدھا بڑا ٹانکا بنائیں۔ اگلی ایک زنجیر جگہ میں آدھا بڑا ٹانکا بنائیں۔ اگلے ٹانکے کے گرد پچھلی طرف سے بڑا ٹانکا بنائیں۔) دو بار دہرائیں۔

اگلا ٹانکا خالی چھوڑ دیں۔ (اگلے ٹانکے کے گرد پچھلی طرف سے بڑا ٹانکا بنائیں۔ اگلی ایک زنجیر جگہ میں بڑا ٹانکا بنائیں)

چار بار دہرائیں۔ اگلے ٹانکے کے گرد پچھلی طرف سے بڑا ٹانکا بنائیں۔

(اگلا ٹانکا خالی چھوڑ دیں اگلے ٹانکے کے گرد پچھلی طرف سے بڑا ٹانکا بنائیں۔ اگلی ایک زنجیر جگہ میں آدھا بڑا ٹانکا بنائیں

اگلی ایک زنجیر جگہ میں سادہ ٹانکا بنائیں۔ اگلے ٹانکے کے گرد پچھلی طرف سے سادہ ٹانکا بنائیں۔ اگلی ایک زنجیر جگہ میں سادہ ٹانکا بنائیں۔ اگلے ٹانکے کے گرد پچھلی طرف سے آدھا بڑا ٹانکا بنائیں۔ اگلی ایک زنجیر جگہ میں آدھا بڑا ٹانکا بنائیں۔) دو بار دہرائیں۔ اگلا ٹانکا خالی چھوڑ دیں۔

اگلی ایک زنجیر جگہ میں بڑا ٹانکا بنائیں۔ اگلے ٹانکے کے گرد پچھلی طرف سے بڑا ٹانکا بنائیں۔) تین بار دہرائیں

(اگلی ایک زنجیر جگہ میں آدھا بڑا ٹانکا بنائیں۔ اگلے ٹانکے کے گرد پچھلی طرف سے آدھا بڑا ٹانکا بنائیں۔) پانچ بار دہرائیں

(اگلی ایک زنجیر جگہ میں سادہ ٹانکا بنائیں۔ اگلے ٹانکے کے گرد پچھلی طرف سے سادہ ٹانکا بنائیں) چھبیس بار دہرائیں۔

اگلے آٹھ ٹانکوں میں ایک ایک سادہ ٹانکا بنائیں۔ تصویر نمبر ایک اور دو دیکھئے۔

اون کو کاٹ کر سرے کو محفوظ کر لیں۔

ٹانکے شمار کرنیں - فی کونہ - چھتر سادہ ٹانکے - چھین ٹانکے کے گرد پچھلی طرف سے بنے سادہ ٹانکے - اٹھارہ آدھے بڑے ٹانکے - اٹھارہ ٹانکے کے گرد پچھلی طرف سے بنے آدھے بڑے ٹانکے - دس بڑے ٹانکے - اونیس ٹانکے کے گرد پچھلی طرف سے بنے بڑے ٹانکے -

چکر نمبر اکانوے سے لیکر چکر نمبر ستانوے تک چاروں کونوں پہ دہرائیں -



اب آپ پورے چوکور نمونے کے گرد کام کرئے گے -

اشارہ - تین - تین بل ٹانکوں کے جھنڈ سے پہلے نشان بکسوبے لگانے سے ٹانکے شمار کرنے میں آسانی ہوگی
اشارہ - چوالیس سے لیکر ستاون سادہ ٹانکے چکر نمبر اسی میں بننائے جائیں گے -

اٹھاونوےواں چکر -

کسی بھی طرف کے پچھلے چکر کے کھڑے سادہ ٹانکے سے پہلے چکر نمبر اسی کے چوتھے ٹانکے میں کھڑا سادہ ٹانکا بنائیں

تصویر نمبر ایک دیکھئے - اگلے ترنالیس ٹانکوں میں ایک ایک سادہ ٹانکا بنائیں -


*اگلے چھ ٹانکوں میں ایک ایک آدھا بڑا ٹانکا بنائیں - (ایک زنجیر ٹانکا بنائیں - اگلے ٹانکے میں تین بڑے ٹانکوں کا جھنڈ بنائیں -) دس بار دہرائیں -

(ایک زنجیر ٹانکا بنائیں - اگلا ٹانکا خالی چھوڑ دیں - اگلے ٹانکے میں تین - تین بل ٹانکوں کا جھنڈ بنائیں -) تین بار دہرائیں -
ایک زنجیر ٹانکا بنائیں - اگلے دو ٹانکے خالی چھوڑ دیں اگلے ٹانکے میں تین - تین بل ٹانکوں کا جھنڈ بنائیں
(ایک زنجیر ٹانکا بنائیں - اگلا ٹانکا خالی چھوڑ دیں - اگلے ٹانکے میں تین - تین بل ٹانکوں کا جھنڈ بنائیں -) دو بار دہرائیں --
(ایک زنجیر ٹانکا بنائیں - اگلے دو ٹانکے خالی چھوڑ دیں اگلے ٹانکے میں تین - تین بل ٹانکوں کا جھنڈ بنائیں -) دو بار دہرائیں -
(ایک زنجیر ٹانکا بنائیں - اگلا ٹانکا خالی چھوڑ دیں - اگلے ٹانکے میں تین - تین بل ٹانکوں کا جھنڈ بنائیں -) دو بار دہرائیں -
ایک زنجیر ٹانکا بنائیں - اگلا ٹانکا خالی چھوڑ دیں - اگلے ٹانکے میں تین - تین بل ٹانکوں کا جھنڈ بنائیں -
ایک زنجیر ٹانکا بنائیں - اگلا ٹانکا خالی چھوڑ دیں - اگلے ٹانکے میں بنائیں - (تین - تین بل ٹانکوں کا جھنڈ - تین زنجیر ٹانکے - تین - تین بل ٹانکوں کا جھنڈ) [کوئہ مکمل ہوا]

(ایک زنجیر ٹانکا بنائیں - اگلا ٹانکا خالی چھوڑ دیں - اگلے ٹانکے میں تین - تین بل ٹانکوں کا جھنڈ بنائیں) دو بار دہرائیں -
ایک زنجیر ٹانکا بنائیں - اگلے دو ٹانکے خالی چھوڑ دیں اگلے ٹانکے میں تین - تین بل ٹانکوں کا جھنڈ بنائیں -
(ایک زنجیر ٹانکا بنائیں - اگلا ٹانکا خالی چھوڑ دیں - اگلے ٹانکے میں تین - تین بل ٹانکوں کا جھنڈ بنائیں -) دو بار دہرائیں -
(ایک زنجیر ٹانکا بنائیں - اگلے دو ٹانکے خالی چھوڑ دیں اگلے ٹانکے میں تین تین بل ٹانکوں کا جھنڈ بنائیں -) دو بار دہرائیں
(ایک زنجیر ٹانکا بنائیں - اگلا ٹانکا خالی چھوڑ دیں - اگلے ٹانکے میں تین - تین بل ٹانکوں کا جھنڈ بنائیں -) دو بار دہرائیں -
(ایک زنجیر ٹانکا بنائیں - اگلا ٹانکا خالی چھوڑ دیں - اگلے ٹانکے میں تین - تین بل ٹانکوں کا جھنڈ بنائیں) دو بار دہرائیں -
(ایک زنجیر ٹانکا بنائیں - اگلا ٹانکا خالی چھوڑ دیں - اگلے ٹانکے میں تین بڑے ٹانکوں کا جھنڈ بنائیں) دس بار دہرائیں -
ایک زنجیر ٹانکا بنائیں - اگلا ٹانکا خالی چھوڑ دیں - اگلے چھ ٹانکوں میں ایک ایک آدھا بڑا ٹانکا بنائیں - اگلے سو ٹانکوں میں
ایک ایک سادہ ٹانکا بنائیں - * تصویر نمبر دو دیکھئے -

**دو ستاروں کے درمیان دی گئی ہدایات کو چار بار دہرائیں۔ آخری دہرائی میں آخری چوالیس سادہ ٹانکے چھوڑتے ہوئے
کھڑے سادہ ٹانکے میں گم ٹانکے سے جوڑ کر چکر مکمل کر لیں اور ان کو مت کاٹیں۔

ٹانکے شمار کریں۔ فی طرف۔ سو سادہ ٹانکے۔ بارہ آدھے بڑے ٹانکے۔ بیس۔ تین بڑے ٹانکوں کے جھنڈ۔ چھبیس۔ تین۔ تین
بل ٹانکوں کے جھنڈ۔ ایک زنجیر ٹانکے والی چھیالیس جگہ۔ تین زنجیر ٹانکے والا ایک کونہ۔



ننانوے واں چکر

ایک زنجیر ٹانکا بنائیں۔ اسہی ٹانکے میں سادہ ٹانکا بنائیں۔ اگلے اونچاس ٹانکوں میں ایک ایک سادہ ٹانکا بنائیں۔ تصویر نمبر ایک دیکھئے۔

* (اگلی ایک زنجیر جگہ میں سادہ ٹانکا بنائیں۔ اگلے ٹانکے کے گرد اگلی طرف سے سادہ ٹانکا بنائیں۔) سولہ بار دہرائیں۔
 (اگلی ایک زنجیر جگہ میں آدھا بڑا ٹانکا بنائیں۔ اگلے ٹانکے کے گرد اگلی طرف سے آدھا بڑا ٹانکا بنائیں۔) تین بار دہرائیں۔
 (اگلی ایک زنجیر جگہ میں بڑا ٹانکا بنائیں۔ اگلے ٹانکے کے گرد اگلی طرف سے بڑا ٹانکا بنائیں۔) چار بار دہرائیں۔
 تین زنجیر ٹانکے والے کونے میں بنائیں۔ (دو بڑے ٹانکے۔ دو زنجیر ٹانکے۔ دو بڑے ٹانکے)
 (اگلے ٹانکے کے گرد اگلی طرف سے بڑا ٹانکا بنائیں۔ اگلی ایک زنجیر جگہ میں بڑا ٹانکا بنائیں۔) چار بار دہرائیں۔
 (اگلے ٹانکے کے گرد اگلی طرف سے آدھا بڑا ٹانکا بنائیں۔ اگلی ایک زنجیر جگہ میں آدھا بڑا ٹانکا بنائیں۔) تین بار دہرائیں۔
 (اگلے ٹانکے کے گرد اگلی طرف سے سادہ ٹانکا بنائیں۔ ایک زنجیر جگہ میں سادہ ٹانکا بنائیں۔) سولہ بار دہرائیں۔
 اگلے ایک سو بارہ ٹانکوں میں ایک ایک سادہ ٹانکا بنائیں۔ (خیال رہے کہ ایک زنجیر ٹانکے والی جگہ کے بعد آنے والا ٹانکا رہ نہ جائے) * تصویر نمبر دو دیکھئے۔

** دو ستاروں کے درمیان دی گئی ہدایات کو چار بار دہرائیں۔ آخری دہرائی میں آخری پچاس سادہ ٹانکے چھوڑتے ہوئے پہلے کھڑے سادہ ٹانکے میں گم ٹانکے سے جوڑ کر چکر مکمل کر لیں اور کٹ کر سرے کو محفوظ کر لیں۔

ٹانکے شمار کرئیں۔ فی طرف۔ ایک سو چوالیس سادہ ٹانکے۔ بتیس ٹانکے کے گرد اگلی طرف سے بنے سادہ ٹانکے۔ چھ آدھے بڑے ٹانکے۔ چھ ٹانکے کے گرد اگلی طرف سے بنے آدھے بڑے ٹانکے۔ بارہ بڑے ٹانکے۔ آٹھ ٹانکے کے گرد اگلی طرف سے بنے بڑے ٹانکے۔ دو زنجیر ٹانکے والا ایک کونہ۔



سوواں چکر -

کسی بھی طرف کے آخری ٹانکے کے گرد اگلی طرف سے بنے بڑے ٹانکے میں کھڑا سادہ ٹانکا بنائیں - اگلے دو ٹانکے خالی چھوڑ دیں - تصویر نمبر ایک دیکھئے -


*دو زنجیر ٹانکے والے کونے میں سات بڑے ٹانکے بنائیں - اگلا ٹانکا خالی چھوڑ دیں - (اگلے ٹانکے میں سادہ ٹانکا بنائیں -

اگلے دو ٹانکے خالی چھوڑ دیں - اگلے ٹانکے میں سات بڑے ٹانکے بنائیں - اگلے دو ٹانکے خالی چھوڑ دیں - (تصویر نمبر دو دیکھئے - چونتیس بار دہرائیں - اگلے ٹانکے میں سادہ ٹانکا بنائیں - اگلے دو ٹانکے خالی چھوڑ دیں - *

**دو ستاروں کے درمیان دی گئی ہدایات کو چار بار دہرائیں - آخری دہرائی میں آخری سادہ ٹانکا چھوڑتے ہوئے پہلے کھڑے

سادہ ٹانکے میں گم ٹانکے سے جوڑ کر چکر مکمل کر لیں اون کو کاٹ کر سرے کو محفوظ کر لیں -

ٹانکے شمار کریں - فی طرف - پینتیس سادہ ٹانکے - چونتیس سیپیاں سات بڑے ٹانکوں والی - سات بڑے ٹانکوں والی کونے کی سیپی -



حصہ ہفتم اختتام پذیر ہوا -

اس وقت کام کو بلاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے -

ہمارے کروشے آلونگ میں شامل ہونے کا شکریہ ۔

مدد اور رہنمائی کے لئے ہمارا فیس بک پیج گروپ ہیلنز ہکوبولک میں شامل ہو سکتے ہیں ۔

<https://www.facebook.com/groups/helenshookaholics/>

♡ برائے مہربانی اس بات کو یاد رکھئے گا کہ یہ میرا ڈیزائن ہے ۔ اور اس پہ کاپی رائٹ ایکٹ لاگو ہے ۔ آپ میرا لنک یا ویب سائٹ یا ریولری سٹور کی معلومات کسی کو بھی دئے سکتے ہیں ۔ آپ اسکا پی ڈی ایف اپنے استعمال کے لئے چھاپ سکتے ہیں لیکن برائے مہربانی اس میں کچھ بھی تبدیل یا بدل نہیں سکتے نہ ہی شیئر کر سکتے ہیں ۔ برائے مہربانی میرا احترام

جیسے کی میں آپ کا کرتی ہوں

آپکی ہیلن♡